

## میڈیا اسٹوری: Mississauga فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز 2023 کے لیے فائر فائٹرز بھرتی کر رہی ہے

Mississauga فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اپنی متحرک ٹیم کے لیے نئی بھرتیوں کی تلاش میں ہے، جو Mississauga کے لوگوں، املاک اور ماحول کا تحفظ کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ ایک فائر فائٹرز ہونے کا مطلب صرف آگ بجھانے سے کہیں زیادہ ہے؛ Mississauga میں وہ طبی ہنگامی حالات، گاڑیوں کے حادثات اور دیگر تکنیکی ریسکیوز میں بھی ردعمل دیتے ہیں۔

اگر آپ یا آپ کے جاننے والا کوئی شخص ایک فائر فائٹرز کے طور پر کریئر کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو بھرتی کے عمل اور اس نوکری میں شامل چیزوں کے بارے میں سیکھنے کا وقت ابھی ہے۔ اپنے جذبے اور قابلیت کو Mississauga میں فائر فائٹرز کے طور پر ایک بھرپور کریئر میں لائیں، جس میں موقع پر تربیت، مسلسل سیکھنا اور بڑھوتری کے مواقع شامل ہیں۔

سٹی Mississauga میں فائر فائٹرز بننے کے فوائد اور فائر فائٹرز کے طور پر بھرتی کے عمل کے متعلق معلومات شیئر کرنے کے لیے دو ورچوئل اوپن ہاؤس نشستوں کا انعقاد کر رہا ہے۔ اوپن ہاؤس میں Mississauga فائر فائٹرز کے ذاتی تجربات، نوکری کے لیے درخواست اور بھرتی کے عمل کے متعلق معلومات اور ساتھ ہی ساتھ سوالات پوچھنے کا موقع شامل ہو گا۔ ہم فائر فائٹرز بننے کے حوالے سے مزید معلومات کے متلاشی ہر شخص کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ذیل میں درج کردہ ورچوئل اوپن ہاؤسز میں سے کسی ایک میں شامل ہوں:

- منگل، 12 جولائی 2022، شام 6:00 تا شام 7:00
- بدھ، 13 جولائی 2022، شام 6:00 تا شام 7:00

Mississauga کی فائر فائٹرز کی نوکری کی پوسٹنگ اگست کے پہلے ہفتے میں کھلے گی، جس کے آغاز کی تاریخ 2023 میں ہو گی۔

اوپن ہاؤس میں شامل ہونے کے لیے لنک یا مزید معلومات کے لیے، براہ کرم [mississauga.ca/firefighterjobs](https://mississauga.ca/firefighterjobs) ملاحظہ کریں

اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں، تو براہ کرم [Firefighter.Recruitment@mississauga.ca](mailto:Firefighter.Recruitment@mississauga.ca) سے رابطہ کریں۔